

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (1) وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ
أَنْقَالَهَا (2) وَ قَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (3) يَوْمَئِذٍ
تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (5)
يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (6) فَمَنْ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)

When the earth is shaken to her (utmost) convulsion, and the earth throws up her burdens (from within), and man cries (distressed): 'What is the matter with her?'- on that day will she declare her tidings: for that thy Lord will have given her inspiration. On that Day will men proceed in group sorted out, to be shown the deeds that they (had done). Then shall anyone who has done an atom's weight of good, see it! And anyone who has done an atom's weight of evil, shall see it.

جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، اور زمین اپنے اندر کے

سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے

؟ اُس روز وہ اپنے (اوپر گزرے ہوئے) حالات بیان کرے گی کیونکہ تیرے

رب نے اُسے (ایسا کرنے کا) حکم دیا ہوگا۔ اُس روز لوگ متفرق حالت میں
پلٹیں گے تاکہ اُن کے اعمال اُن کو دکھائے جائیں۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی
ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے
گا۔

جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلنا ڈالی جائے گی، اور
زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نیکال کر باہر ڈال دے گی، اور
انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے؟ اس روز وہ اپنے
(اوپر گیزرے ہوئے) حالات بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے (ایسا
کرنے کا) حکم دیا ہوگا | اس روز لوگ متفرق حالت میں
پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں | پھر جس نے ذرہ
ب برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا | اور جس نے ذرہ
ب برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا |